

- 1 Electrical potential and e.m.f. اکٹرک پیشل اور e.m.f. -
- (a) are the same terms (b) are the different terms (a) ایک جیسی مقداریں ہیں (b) مختلف مقداریں  
 (c) have different units (d) both B & C (c) انکے یونیٹ مختلف ہیں (d) دونوں B اور C
- 2 Specific resistance of metal nichrome is: ناکروم کی سپیسیفیک ریزمنس ہے۔
- (a)  $200 \times 10^{-8} \Omega m$  (b)  $100 \times 10^{-8} \Omega m$  (a)  $200 \times 10^{-8} \Omega m$  (b)  $100 \times 10^{-8} \Omega m$   
 (c)  $300 \times 10^{-8} \Omega m$  (d)  $600 \times 10^{-8} \Omega m$  (c)  $300 \times 10^{-8} \Omega m$  (d)  $600 \times 10^{-8} \Omega m$
- 3 If  $0.5C$  charge passes through a wire in 10 seconds, then current will be: اگر ایک تار میں  $0.5C$  چارج  $10s$  میں گزرتا ہے تو تار میں کرنٹ ہو گا۔
- (a) 5ma (b) 50 ma (a) 5ma (b) 50 ma  
 (c) 5 A (d) 20 A (c) 5 A (d) 20 A
- 4 An electric current in conductors is due to the flow of: کنڈکٹر میں الکٹرک کرنٹ کے بہاؤ کی وجہ:
- (a) Positive ions (b) Negative ions (a) پوزیٹیو آئنائز (b) نیگیٹیو آئنائز  
 (c) Positive charges (d) Free electrons (c) پوزیٹیو چارجز (d) آزاد الکٹر ون
- 5 The rate of flow of charges is called: چارجز کے بہاؤ کی شرح کو کہتے ہیں۔
- (a) Volt (b) ampere (a) ولٹ (b) کرنٹ  
 (c) Joule (d) coulomb (c) اوہم (d) کولمب
- 6 Electric potential and emf. الکٹرک پیشل اور emf
- (a) are same quantities (b) two difference quantities (a) ایک جیسی مقداریں ہیں (b) مختلف مقداریں ہیں  
 (c) have different units (d) Both A & B (c) ان کی یونیٹ مختلف ہیں (d) دونوں A اور B
- 7 An electric current in conductor is due to the flow of: کنڈکٹر میں الکٹرک کرنٹ جس کے بہاؤ کی وجہ ہے:
- (a) Free Electrons (b) Negative ions (a) آزاد الکٹر ون (b) نیگیٹیو آئنائز  
 (c) Positive charges (d) Positive ions (c) پوزیٹیو چارجز (d) پوزیٹیو آئنائز
- 8 If emf of a battery is 2v, the energy supplied by battery is \_\_\_\_\_ when one coulomb of charge flows through the close circuit. اگر بیٹری کی ایم ایف 2v ہو تو ایک کولمب چارج بندرگھٹ میں سے گزرتا ہے تو بیٹری اس کو ----- انرجی مہیا کرتی ہے۔
- (a) 5 Joules (b) 4 Joules (c) 2.8 Joules (d) 2 Joules (a) 5 جول (b) 4 جول (c) 2.8 جول (d) 2 جول